



سوال

(259) پشاب کی نجاست سے بچنے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کبھی کبھی نماز سے فراغت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میرے کپڑوں پر پشاب کے چھینٹے یا کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کا انکشاف کبھی دوسرے دن بھی ہوتا ہے تو کیا میری سابقہ نماز درست ہوگی؟ مجھ پر کوئی چیز لازم ہوگی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

پشاب وغیرہ کی نجاست سے بچنے کے لئے احتیاط سے کام لیجیے جب پشاب کرنے کا عمل مکمل ہو جائے تو پھر استنجاء اور وضوء کو شروع کیجیے اگر قطرہ گرنے یا سلسل البول کی شکایت ہے تو نماز سے قریباً ایک گھنٹہ پہلے پشاب کیجیے قطروں کے بند ہونے کا انتظار کیجیے اور جب بند ہو جائیں تو پھر وضوء کیجیے اگر یہ صورت و سوسہ کی وجہ سے ہو تو پھر اپنے کپڑے شلوار وغیرہ پر پانی کے چھینٹے مار لیجیے تاکہ شیطان یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تری پشاب کی ہے اور اگر سلسل البول کی شکایت مستقل ہو تو اسی حالت میں نماز جائز ہے لیکن وضوء اذان کے بعد کیجیے اگر پشاب کے قطرے بند ہو گئے ہوں اور تم تری کو دیکھو اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ تری نماز سے پہلے کی ہے تو پھر احتیاط یہ ہے کہ اس نماز کو دوہرا لیا جائے اور اگر محض شک ہو تو پھر نماز دوہرا کرنے کی ضرورت نہیں (ان شاء اللہ) (شیخ ابن جبرین)

حداماعذی والنداعلم بالصواب

[فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1](#)

صفحہ نمبر 272

محدث فتویٰ